



برامپٹن ٹرانزٹ نے نئے PRESTO لائٹنی پروگرام کا آغاز کر دیا

برامپٹن، آن (3 جولائی 2020) – بروز پیر، 6 جولائی کو برامپٹن ٹرانزٹ ایک لائٹنی پروگرام کا آغاز کر رہا ہے، جو صارفین کو اپنے PRESTO کارڈ سے کرایہ کی ادائیگی پر مفت رائیڈز حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔

جب مسافر ایک ہفتے کے عرصے میں پیر تا اتوار اپنے PRESTO کارڈ بیلنس سے برامپٹن ٹرانزٹ پر 12 سفروں کے لیے ادائیگی کریں گے، تو اس کے بعد اس ہفتے کے دوران باقی ہر سفر مفت ہو گا۔

لائٹنی پروگرام برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کے لیے سفر کرنے کے ایک نیا اور انعام دینے والا طریقہ ہے، جو بغیر چھوٹے ادائیگیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تمام مسافر اپنی عمر سے قطع نظر مفت سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کا کرایہ کے تمام زمروں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ٹرانزٹ سروس کے دیگر فراہم کنندگان اور بار عایت گو کو۔ فیئر (GO co-fare) ادائیگیوں کے لیے منتقلیوں اور کرایہ کی ادائیگیوں کو اس پروگرام میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ہفتہ وار پاسز ابھی بھی دستیاب ہیں۔

ایسے مسافر، جو ابھی بھی اپنے سفر کے لیے نقد رقم استعمال کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی کسٹمر سروس کاؤنٹر سے PRESTO کارڈ حاصل کریں۔ محدود وقت کے لیے، PRESTO کارڈ کی \$6 فیس ختم کر دی گئی ہے – ایک کارڈ فی مسافر۔ ٹرانزٹ ٹرمینلز، ماسوائے ٹریبیٹی کامن ٹرمینل کی عمارت، پر کسٹمر کاؤنٹرز کھلے ہیں۔

کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھیں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس، ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپیسمنٹ سائٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

پبل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک لازمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca